

1 فروری 2018

برامپٹن میں فنون و ثقافت کے مستقبل کے حوالے سے آپ کی رغبت (INspiration) اور رائے (INput) درکار ہے

برامپٹن، آن: مورخہ 1 فروری کو سٹی آف برامپٹن نے ایک آن لائن سروے کا آغاز کر دیا تھا، جو کہ برامپٹن کے پہلے کلچر ماسٹر پلان میں عوام کی وسیع تر وابستگی و شمولیت کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ فنون و ثقافت کے حوالے سے یہ منصوبہ کمیونٹی کے خوابوں کا آئینہ دار ہو گا اور اگلے دس سال تک فراہم کی جانے والی میونسپل کلچرل سروسز اور سرمایہ کاری اسی منصوبہ کی روشنی میں کی جائے گی۔

فروری اور مارچ کے مہینوں کے دوران وابستگی و شمولیت کے 70 سے زیادہ مواقع کی فراہمی سے برامپٹن میں فنون و ثقافت کے حوالے سے کمیونٹی کے نقطہ نظر کے حصول اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی اقدار اور تمناؤں کے بارے میں خاطر خواہ معلومات کے حصول کے لیے سٹی پر عزم ہے۔ شرکت کے دیگر مواقع میں شامل ہیں اسٹیک ہولڈرز کی ورکشاپس اور قریبی علاقوں میں ہر خاص و عام کی شمولیت کے مقامی مواقع کے علاوہ شہر بھر میں منعقد کی جانے والی دیگر تقریبات۔ وابستہ ہونے کے طریقوں کے بارے میں تفصیلات کلچر ماسٹر پلان کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں www.brampton.ca/culturemasterplan

اپنی صنعت کی مایہ ناز ٹیم لارڈ کلچرل ریسورسز اینڈ نارڈیسٹی اس منصوبہ سے کلیدی حیثیت میں وابستہ رہے گی۔ اس منصوبے کے فروغ کے دوران ماہرانہ رہنمائی کے لیے سٹی نے اس ٹیم کی خدمات موسم خزاں 2017 میں حاصل کی تھیں، جو جون 2018 میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ثقافتی فروغ کے لیے حکمت عملی کی سمت کی فراہمی کے علاوہ یہ منصوبہ شہر کو ایک بڑھتے ہوئے اختراعی، مربوط اور متحرک عالمگیر شہر بنانے کے لیے سٹی کے جامع تصور کو عملی جامہ پہنانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔

اقتباسات:

فنون و ثقافت سے کام کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، معیشت آگے بڑھتی ہے اور یہ اونٹیریو میں \$28.5 بلین کی صنعتیں ہیں۔ برامپٹن میں ہم سب کے ارد گرد بڑے پرجوش مواقع موجود ہیں۔ میں اپنے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اس سے وابستہ ہوں اور ہمارے پہلے کلچرل ماسٹر پلان کی تیاری میں حصہ لے کر ہماری معاونت کریں۔ آئیں مل کر آگے بڑھتے ہیں اور فنون و ثقافت کے لیے برامپٹن میں ایک پرجوش مشترکہ مستقبل بناتے ہیں!

- میئر لندا جیفری

کلچرل ماسٹر پلان ایک عظیم شہر کی تعمیر کے لیے فنون و ثقافت کے شعبے میں رغبت اور سرمایہ کاری پر مرکوز ہماری توجہ کو نئے سانچے میں ڈھالنے کا ایک نادر موقع ہے۔ اس میں عوامی شمولیت انتہائی لازمی ہے تاکہ یہ منصوبہ عوامی خواہشات کے عین مطابق، منفرد اور پرجوش ہو۔ برامپٹن کو اونٹیریو میں ایک ثقافتی مرکز کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے جسے قابل قدر اختراعی فنکاروں اور وسائل کی مدد سے مرتب کیا جائے گا جو ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں۔

- باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

برائن اسٹیل

سینیئر میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

brian.stittle@brampton.ca | 905.874.2143